

9th Class General Science Urdu Medium Online Test For Full Book

Sr	Questions	Answers Choice
1	سوئٹیم لیمپ بنانے میں استعمال کیا جاتا ہے	A. نان ویپر لیمپ کو B. ویپر لیمپ کو C. لیمپ کو D. بلب کو
2	جانوروں کے جگر میں وٹامن پایا جاتا ہے	A. C B. B1 C. B12 D. K
3	ایٹموسفیئر کی سرد ترین تہ ہے	A. ٹروپوسفیئر B. سٹریٹوسفیئر C. میزوسفیئر D. تھر مو سفیئر
4	اوزون گیس ایٹموسفیئر کی کس تہ میں حفاظتی غلاف بناتی ہے؟	A. ٹروپوسفیئر B. سٹریٹوسفیئر C. میزو سفیئر D. تھر مو سفیئر
5	ایک گرام کاربوہائیڈریٹس والی غذا کھانے سے ہمارے جسم کو توانائی حاصل ہوتی ہے	A. 3.8 Kcal B. 8.3 Kcal C. 4.8 Kcal D. 5.3 Kcal
6	تھرد ورم لمبائی میں ہوتے ہیں	A. ایک سینٹی میٹر B. تین سینٹی میٹر C. پانچ سینٹی میٹر D. چھ سینٹی میٹر
7	پیچیدہ نامیاتی کمپاؤنڈ کا سادہ نامیاتی کمپاؤنڈ میں ٹوٹنا کہلاتا ہے	A. تخریبی عمل B. تعمیری عمل C. اینڈولک عمل D. میٹا بولک عمل
8	خوراک کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے	A. بچوں کو B. بوڑھوں کو C. نوجوانوں کو D. ادھیڑ عمر لوگوں کو
9	پاکستان کی موجودہ آبادی ہے	A. 130 ملین B. 149 ملین C. 140 ملین D. 160 ملین
10	تھلی رائٹ گلیٹنز کے علاج کے لیے استعمال کی جاتی ہے	A. 130 اینیوٹین B. 131 اینیوٹین C. 132 اینیوٹین D. 133 اینیوٹین
11	بی-سی-جی کا پہلا ٹیکہ بچوں کو جس عمر میں لگایا جاتا ہے	A. ایک ماہ B. پیدائش C. 3 ماہ D. 9 ماہ
12	محمد بن زکریا الرازی نے مختلف کیمیائی مرکبات کو تقسیم کیا	A. تین گروپوں میں B. چار گروپوں میں C. پانچ گروپوں میں
13	کیڑے مکوڑوں کے خلاف مدافعت پیدا کرتا ہے	A. اے-ٹی جین B. بی-ٹی جین C. سی-ٹی جین D. دی-ٹی جین
14	پاکستان کے نامور نوبل انعام یافتہ سائنسدان ہیں	A. ڈاکٹر عبدالقدیر خان B. ڈاکٹر منیر احمد خان C. ڈاکٹر عبدالسلام
15	دنیا میں موجود تمام اشیا بنی ہوتی ہیں	A. دو ایلیمنٹس B. تین ایلیمنٹس C. چار ایلیمنٹس D. پانچ ایلیمنٹس
		A. فٹی ایسڈ

16 پروٹین کے بلٹنگ بلاکس کہلاتے ہیں

- B. ایٹی باتیز
- C. انزائم
- D. ایمونیو ایسڈز

17 بیہائٹس کی اقسام ہیں

- A. دو
- B. تین
- C. چار
- D. پانچ

18 کائنات کی سخت ترین شے ہے

- A. پیرا
- B. گریفائٹ
- C. کوبالٹ
- D. لوہا

19 پر برف کی ٹینسٹی 0°C

- A. 0.918 g/cm³
- B. 0.618 g/cm³
- C. 0.718 g/cm³
- D. 0.818 g/cm³

20 غذائی جزو جس کی سب سے کم مقدار میں جسم کو ضرورت ہے

- A. کاربوہائیڈریٹ
- B. پروٹین
- C. وٹامنز
- D. فیٹس